

Jud

Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Ἰούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ
یہوداہ یسوع-کا مسیح-کا غلام بھائی اور یعقوب-کا اُن-کو میں خدا باپ
[G2455](#) [G2424](#) [G5547](#) [G1401](#) [G0080](#) [G1161](#) [G2385](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2316](#) [G3962](#)

ἠγαπημένοι, καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοι κλητοῖς.
پیارے اور یسوع مسیح-میں محفوظ بلائے-بوئے
[G0025](#) [G2532](#) [G2424](#) [G5547](#) [G5083](#) [G2822](#)

اور میں پیارے میں باپ خدا جو ہے، گیا بلایا جنہیں ہوں رہا لکھ انہیں میں ہے۔ سے طرف کی یہوداہ بھائی کے یعقوب اور خادم کے مسیح عیسیٰ خط یہ
ہیں۔ گئے رکھے محفوظ لئے کے مسیح عیسیٰ

2 ἔλεος ὑμῖν, καὶ εἰρήνη, καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.
رحم تم-پر اور سلامتی اور محبت بڑھتی-رہے
[G1656](#) [G4771](#) [G2532](#) [G1515](#) [G2532](#) [G0026](#) [G4129](#)

کرے۔ عطا سے کثرت محبت اور سلامتی رحم، کو آپ اللہ

3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς
پیارو ہر کوشش کرتے-بوئے لکھنے-کی تم-کو کے-بارے-میں اُس مشترک
[G0027](#) [G3956](#) [G4710](#) [G4160](#) [G1125](#) [G4771](#) [G4012](#) [G3588](#) [G2839](#)

ἡμῶν σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ
ہماری نجات ضرورت پڑی لکھنے-کی تم-کو نصیحت-کرتے-بوئے جدوجہد-کرو اُس
[G1473](#) [G4991](#) [G0318](#) [G2192](#) [G1125](#) [G4771](#) [G3870](#) [G1864](#) [G3588](#)

ἅπαξ παραδοθείση τοῖς ἁγίοις πίστει.
ایک-بار سونپے-گئے مقدسوں-کو مقدسوں کے-لیے ایمان-کے-لیے
[G0530](#) [G3860](#) [G3588](#) [G0040](#) [G4102](#)

میں بارے کے بات اور ایک کو آپ میں اب لیکن ہیں، شریک سب ہم میں جس ہوں رکھتا شوق بڑا کا لکھنے میں بارے کے نجات اُس کو آپ میں گو عزیزو،
لئے کے سدا بار ہی ایک جو کریں جہد و جد خاطر کی ایمان اُس آپ کہ ہوں کرتا محسوس ضرورت کی کرنے نصیحت کو آپ میں اس میں ہوں۔ چاہتا لکھنا
ہے۔ گیا دیا کر سپرد کے مقدسین

4 παρεισέδυσαν γὰρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο
چپکے-سے-داخل-بوئے کیونکہ کچھ آدمی جو پہلے-سے لکھے-گئے ہیں
[G3921](#) [G1063](#) [G5100](#) [G0444](#) [G3588](#) [G3819](#) [G4270](#) [G1519](#) [G3778](#)

τὸ κρίμα; ἀσεβεῖς τῆν, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, χάριτα, μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν,
اس فیصلے بے دین اُس کی خدا-کی ہماری فضل-کو بدلنے-والے میں شہوت-پرستی
[G3588](#) [G2917](#) [G0765](#) [G3588](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1473](#) [G5485](#) [G3346](#) [G1519](#) [G0766](#)

καὶ τὸν μόνον Δεσπότην, καὶ Κύριον ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστὸν, ἀρνούμενοι.
اور اُس واحد مالک اور خداوند ہمارے یسوع مسیح-کا انکار-کرنے-والے
[G2532](#) [G3588](#) [G3441](#) [G1203](#) [G2532](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G0720](#)

جو ہیں بے دین وہ کہ ہے گیا لکھا یہ میں بارے کے اُن ہے۔ چکا جا ٹھہرایا مجرم پہلے عرصہ بہت جنہیں ہیں آئے گھس درمیان کے آپ لوگ کچھ کیونکہ
ہیں۔ کرتے انکار کا مسیح عیسیٰ خداوند اور آقا واحد ہمارے اور ہیں دیتے بنا باعث کا عیاشی کر مروڑ توڑ کو فضل کے خدا ہمارے

5 Ὑπομνήσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας <ὑμᾶς> ἅπασι «πάντα, ὅτι [ὁ]
یاد-دلانا لیکن تم-کو چاہتا-ہوں جانتے-ہوئے تم ایک-بار سب-کچھ کہ وہ
G5279 G1161 G4771 G1014 G1492 G4771 G0530 G3956 G3754 G3588

Κύριος» λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ
خداوند-نے قوم-کو سے زمین مصر-کی بچایا دوسری دوسری-بار اُن-کو نہ
G2962 G2992 G1537 G1093 G0125 G4982 G3588 G1208 G3588 G3361

πιστεύσαντας, ἀπώλεσεν.

ایمان-لانے-والوں-کو ہلاک-کیا
G4100 G0622

اُس تو بھی تھا لیا بچا کر نکال سے مصر کو قوم اپنی نے خداوند اگرچہ کہ ہوں چاہتا دلانا یاد کی اس کو آپ میں بھی پھر ہیں، جانتے کچھ سب یہ آپ گو تھے۔ رکھتے نہیں ایمان جو دیا کر ہلاک انہیں میں بعد نے

6 ἀγγέλου τε, τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας
فرشتوں-کو اور جنہوں-نے نہ رکھا اپنی اپنی حکومت بلکہ چھوڑنے-والے
G0032 G5037 G3588 G3361 G5083 G3588 G1438 G0746 G0235 G0620

τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας, δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ
اپنا اپنا مسکن کے-لیے عدالت بڑے دن-کی زنجیروں-میں ابدی تلے
G3588 G2398 G3613 G1519 G2920 G3173 G2250 G1199 G0126 G5259

ζόφον τετήρηκεν;

تاریکی رکھا-ہے
G2217 G5083

نے اُس انہیں دیا۔ کر ترک کو گاہ رہائش اپنی نے جنہوں بلکہ تھا کیا مقرر لئے کے اُن نے اللہ جو رہے نہ اندر کے اختیار دائرہ اُس جو کریں یاد کو فرشتوں اُن ہیں۔ رہے کر انتظار کا عدالت کی عظیم روز ہوئے جکڑے میں زنجیروں ابدی وہ جہاں بے رکھا محفوظ میں تاریکی

7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον
جیسے سدوم اور عموره اور جو کے-آس-پاس اُن شہر اسی اسی
G5613 G4670 G2532 G1116 G2532 G3588 G4012 G0846 G4172 G3588 G3664

τρόπον τοῦτοις ἐκπορνεύσασαι, καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας,
طریقے-سے اُن-کی زنکاری-کرنے-والے اور جانے-والے پیچھے جسم دوسرے-کے
G5158 G3778 G1608 G2532 G0565 G3694 G4561 G2087

πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
پیش-کیے-گئے نمونے-کے-طور-پر آگ-کی ابدی سزا والے بھگتنے-والے
G4295 G1164 G4442 G0166 G1349 G5254

یہ رہے۔ پڑے پیچھے کے صحبت غیر فطری اور زنا کاری طرح کی فرشتوں اِن باشندے کے جن بھولنا، مت بھی کو شہروں کے گرد ارد کے اُن اور عموره سدوم، ہیں۔ مثال ناک عبرت ایک لئے کے سب ہوئے بھگتنے سزا کی آگ ابدی لوگ

8 Ὅμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι, σάρκα μὲν μιαινούνται, κυριότητα
اسی-طرح البتہ بھی یہ خواب-دیکھنے-والے جسم-کو تو ناپاک-کرتے-ہیں حکومت-کو
G3668 G3305 G2532 G3778 G1797 G4561 G3303 G3392 G2963

δὲ ἀθετοῦσιν, δόξα δὲ βλασφημοῦσιν.
رد-کرتے-ہیں اور جلالوں-کی اور کفر-بکتے-ہیں
G1161 G0114 G1391 G1161 G0987

کفر پر بستیاں جلالی اور کرتے رد اختیار کا خداوند لیتے، کر آلودہ کو بدنوں اپنے وہ پر بنا کی خوابوں اپنے ہے۔ لیا اپنا رویہ سا کا اُن نے لوگوں اِن تو بھی ہیں۔ بکتے

9	ὁ	δὲ	Μιχαὴλ	ὁ	ἀρχάγγελος,	ὅτε	τῷ	διαβόλῳ	διακρινόμενος,
	وہ	لیکن	میکائیل	وہ	فرشتوں-کا-سردار	جب	کے-ساتھ	ابلیس	جھگڑتے-ہوئے
	G3588	G1161	G3413	G3588	G0743	G3753	G3588	G1228	G1252
	διελέγετο	περὶ	τοῦ	Μωϋσέως	σώματος,	οὐκ	ἐτόλμησεν	κρίσιν	ἐπενεγκεῖν
	بحث-کرتا-تھا	کے-بارے-میں	کی	موسیٰ-کی	لاش	نہ	جرأت-کی	الزام	لگانے-کی
	G1256	G4012	G3588	G3475	G4983	G3756	G5111	G2920	G2018
	βλασφημίας,	ἀλλὰ	εἶπεν,	Ἐπιτιμήσαι	σοι,	Κύριος.			
	کفر-کا	بلکہ	کہا	ڈانٹے	تجھے	خداوند			
	G0988	G0235	G3004	G2008	G4771	G2962			

تو تھا رہا کر مباحثہ بحث میں بارے کے لاش کی موسیٰ وقت جھگڑتے سے ابلیس وہ جب کریں۔ غور پر رویے کے میکائیل فرشتے سردار میں مقابلے کے ان ڈانٹے! کو آپ رب کہا، ہی اتنا صرف بلکہ کی نہ جرأت کی کرنے فیصلہ کا بکنے کفر پر ابلیس نے اُس

10	οὔτοι	δὲ,	ὅσα	μὲν	οὐκ	οἶδασι	βλασφημοῦσιν;	ὅσα	δὲ	φυσικῶς,
	یہ	لیکن	جو-کچھ	تو	نہیں	جانتے	کفر-بکتے-ہیں	جو-کچھ	اور	فطری-طور-پر
	G3778	G1161	G3745	G3303	G3756	G1492	G0987	G3745	G1161	G5447
	ὡς	τὰ	ἄλογα	ζῶα,	ἐπίστανται,	ἐν	τούτοις	φθείρονται.		
	جیسے	وہ	بے عقل	جانور	سمجھتے-ہیں	میں	ان-میں	تباہ-ہوتے-ہیں		
	G5613	G3588	G0249	G2226	G1987	G1722	G3778	G5351		

طرح کی جانوروں بے سمجھ پر طور فطری وہ کچھ جو اور آتی۔ نہیں میں سمجھ کی ان جو ہیں بکتے کفر میں بارے کے بات ایسی ہر لوگ یہ لیکن ہے۔ دیتا کر تباہ انہیں وہی ہیں سمجھتے

11	οὐαὶ	αὐτοῖς!	ὅτι	τῇ	ὁδῷ	τοῦ	Καίιν	ἐπορεύθησαν,	καὶ	τῇ	πλάνῃ
	افسوس	ان-پر	کیونکہ	اُس	راستے-پر	کی	قائن	چلے	اور	اُس	گھرابی-میں
	G3759	G0846	G3754	G3588	G3598	G3588	G2535	G4198	G2532	G3588	G4106
	τοῦ	Βαλαὰμ	μισθοῦ	ἐξεχύθησαν,	καὶ	τῇ	ἀντιλογία	τοῦ	Κόρε	ἀπώλοντο.	
	کی	بلعام-کی	اُجرت-کی	بہ-نکلے	اور	اُس	سرکشی-میں	کی	قورح	بلاک-ہوئے	
	G3588	G0903	G3408	G1632	G2532	G3588	G0485	G3588	G2879	G0622	

نے بلعام جو بے دیا کر حوالے کے غلطی اُس پر طور پورے کو آپ اپنے نے انہوں میں لالچ کے پیسوں ہے۔ کی اختیار راہ کی قابیل نے انہوں افسوس! پر ان ہیں۔ ہوئے بلاک کر ہو باغی طرح کی قورح وہ کی۔

12	Οὔτοι	εἰσιν	οἱ,	ἐν	ταῖς	ἀγάπαις	ὑμῶν,	σπλάδες;	συνευωχούμενοι
	یہ	ہیں	جو	میں	تمہاری	محبت-کی-ضیافتوں	تمہاری	چٹانیں	ساتھ-کھانے-والے
	G3778	G1510	G3588	G1722	G3588	G0026	G4771	G4694	G4910
	ἀφόβως,	ἑαυτοῦς	ποιμαίνοντες;	νεφέλαι	ἄνυδροι,	ὑπὸ	ἀνέμων	παραφερόμεναι,	
	بے خوف	اپنے-آپ-کو	چرانے-والے	بادل	بے پانی	سے	ہواؤں	اُڑانے-جانے-والے	
	G0870	G1438	G4165	G3507	G0504	G5259	G0417	G3911	
	δένδρα	φθινοπωρινὰ	ἄκαρπα,	δις	ἀποθανόντα,	ἐκριζωθέντα;			
	درخت	خزاں-کے	بے پھل	دوبارہ	مردہ	جڑ-سے-اُکھاڑے-ہوئے			
	G1186	G5352	G0175	G1364	G0599	G1610			

کر کھا کھا کھانا بغیر ڈرے یہ ہیں۔ جاتے بن دھبے لئے کے رفاقت تو ہیں ہوتے شریک میں کھانوں رفاقتی والے کرنے یاد کو محبت کی خداوند لوگ یہ جب برستے لیکن ہیں تو چلتے سے زور کے ہواؤں جو ہیں بادل ایسے یہ ہیں۔ کرتے بانی گلہ اپنی صرف جو ہیں چرواہے ایسے یہ ہیں۔ ہوتے محظوظ سے اُس ہیں۔ ہوئے اُکھاڑے سے جڑ اور لاتے نہیں پھل وہ ہیں۔ مُردہ سے لحاظ دو جو ہیں مانند کی درختوں ایسے میں موسم کے سردیوں یہ نہیں۔

- 13 κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας; ἀστερές πλανῆται,
 آوارہ ستارے شرم اپنی اپنی جھاگ-اگلے-والی سمندر-کی وحشی لہریں
[G2949](#) [G0066](#) [G2281](#) [G1890](#) [G3588](#) [G1438](#) [G0152](#) [G0792](#) [G4107](#)
- οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκοτους εἰς αἰῶνα τετήρηται.
 رکھی-گئی-ہے ہمیشہ-کے-لیے میں اندھیرے کی تاریکی وہ جن-کے-لیے
[G3739](#) [G3588](#) [G2217](#) [G3588](#) [G4655](#) [G1519](#) [G0165](#) [G5083](#)

تاریکی گہری سے سب نے اللہ لئے کے جن ہیں ستارے آوارہ یہ ہیں۔ اچھالتی جھاگ کی حرکتوں ناک شرم اپنی جو ہیں مانند کی لہروں بے قابو کی سمندر یہ ہے۔ کی مخصوص جگہ دائمی ایک میں

- 14 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις, ἑβδομος ἀπὸ Ἀδάμ, Ἐνώχ, λέγων: Ἴδου,
 دیکھو کہتے-ہوئے حنوک-نے آدم سے ساتواں اُن-کے-بارے-میں بھی اور نبوت-کی
[G4395](#) [G1161](#) [G2532](#) [G3778](#) [G1442](#) [G0575](#) [G0076](#) [G1802](#) [G3004](#) [G3708](#)
- ἦλθεν Κύριος ἐν ἀγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,
 آیا خداوند میں مقدس لاکھوں اپنے
[G2064](#) [G2962](#) [G1722](#) [G0040](#) [G3461](#) [G0846](#)

ساتھ کے فرشتوں مُقدس بے شمار اپنے خداوند دیکھو، کی، گوئی پیش یہ میں بارے کے لوگوں ان نے حنوک آدمی ساتویں بعد کے آدم

- 15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς, περὶ
 کے-بارے-میں بے دینوں-کو اُن سب-کو ثابت-کرنے-کو اور سب-کے کے-خلاف عدالت کرنے-کو
[G4160](#) [G2920](#) [G2596](#) [G3956](#) [G2532](#) [G1651](#) [G3956](#) [G3588](#) [G0765](#) [G4012](#)
- πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν, ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων
 سب کے کاموں بے دینی-کے اُن-کے بے دینی-کی اور کے-بارے-میں سب
[G3956](#) [G3588](#) [G2041](#) [G0763](#) [G0846](#) [G3739](#) [G0764](#) [G2532](#) [G4012](#) [G3956](#)
- τῶν σκληρῶν, ὧν ἐλάλησαν κατ' αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
 اُن سخت-باتوں جو بولے کے-خلاف اُس گنہگاروں-نے بے دین
[G3588](#) [G4642](#) [G3739](#) [G2980](#) [G2596](#) [G0846](#) [G0268](#) [G0765](#)

وجہ کی باتوں سخت تمام اُن اور ہیں ہوئی سرزد سے اُن جو گا ٹھہرائے مجرم سے سب کے حرکتوں بے دین تمام اُن انہیں وہ گا۔ آئے کرنے عدالت کی سب ہیں۔ کی خلاف کے اُس نے گاروں گناہ بے دین جو سے

- 16 Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι;
 یہ ہیں بڑبڑانے-والے شکایت-کرنے-والے کے-مطابق اپنی خواہشوں اپنی چلنے-والے
[G3778](#) [G1510](#) [G1113](#) [G3202](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1939](#) [G0846](#) [G4198](#)
- καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα, ὠφελείας χάριν.
 اور اُن-کا منہ اُن-کا بولتا-ہے بڑی-بڑی-باتیں بڑی-بڑی-کرنے-والے تعریف-کرنے-والے چہروں-کی فائدے-کی خاطر
[G2532](#) [G3588](#) [G4750](#) [G0846](#) [G2980](#) [G5246](#) [G2296](#) [G4383](#) [G5622](#) [G5484](#)

اپنے اور مارتے شیخی میں بارے اپنے یہ ہیں۔ گزارتے زندگی لئے کے کرنے پوری خواہشات ذاتی اپنی صرف یہ ہیں۔ ربتے کرتے شکایت اور بڑبڑاتے لوگ یہ ہیں۔ کرتے خوشامد کی دوسروں لئے کے فائدے

- 17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων, ὑπὸ
 تم لیکن پیارو یاد-کرو اُن باتوں-کو اُن پہلے-کہی-گئی سے
[G4771](#) [G1161](#) [G0027](#) [G3403](#) [G3588](#) [G4487](#) [G3588](#) [G4302](#) [G5259](#)
- τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 کی-طرف-سے رسولوں کے خداوند ہمارے یسوع مسیح-کے
[G3588](#) [G0652](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#)

تھی۔ کی نے رسولوں کے مسیح عیسیٰ خداوند ہمارے گوئی پیش کی جس رکھیں یاد کچھ وہ عزیزو، میرے آپ لیکن

18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, [ὅτι] Ἐπ' ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται, κατὰ
 کہ تھے-تھے تم-سے کہ میں آخری کے وقت ہوں-گے ٹھٹھا-کرنے-والے کے مطابق
[G3754](#) [G3004](#) [G4771](#) [G3754](#) [G1909](#) [G2078](#) [G3588](#) [G5550](#) [G1510](#) [G1703](#) [G2596](#)

τὰς ἐαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι, τῶν ἀσεβειῶν.
 اپنی اپنی خواہشوں چلنے-والے کی بے دینیوں
[G3588](#) [G1438](#) [G1939](#) [G4198](#) [G3588](#) [G0763](#)

گے۔ گزاریں زندگی ہی لئے کے کرنے پوری خواہشات بے دین اپنی جو گے ہوں والے اڑانے مذاق میں دنوں [آخری تھا، کہا سے آپ نے انہوں

19 Οὔτοι εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ ἔχοντες.
 یہ ہیں جو تفرقہ-ڈالنے-والے نفسانی روح نہ رکھنے-والے
[G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0592](#) [G5591](#) [G4151](#) [G3361](#) [G2192](#)

بے۔ نہیں القدس روح پاس کے جن اور ہیں رکھتے سوچ دنیاوی جو کرتے، بازی پارٹی جو ہیں وہ یہ

20 ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς, τῇ ἀγνωτάτῃ ὑμῶν πίστει
 تم لیکن پیارو تعمیر-کرتے-ہوئے اپنے-آپ-کو اپنے نہایت-مقدس اپنے ایمان-پر
[G4771](#) [G1161](#) [G0027](#) [G2026](#) [G1438](#) [G3588](#) [G0040](#) [G4771](#) [G4102](#)

ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι;
 میں روح مقدس دعا-کرتے-ہوئے
[G1722](#) [G4151](#) [G0040](#) [G4336](#)

کریں۔ دعا میں القدس روح اور کریں تعمیر پر بنیاد کی ایمان ترین مقدس اپنے کو آپ اپنے عزیزو، میرے آپ لیکن

21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου
 خود اپنے-آپ-کو میں محبت خدا-کی رکھو انتظار-کرتے-ہوئے اُس کے رحم-کا خداوند
[G1438](#) [G1722](#) [G0026](#) [G2316](#) [G5083](#) [G4327](#) [G3588](#) [G1656](#) [G3588](#) [G2962](#)

ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν αἰώνιον.
 ہمارے يسوع مسیح-کا کے-لیے زندگی ابدی
[G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G1519](#) [G2222](#) [G0166](#)

پہنچائے۔ تک زندگی ابدی کو آپ رحم کا مسیح عیسیٰ خداوند ہمارے کہ رہیں میں انتظار اس اور رکھیں قائم میں محبت کی اللہ کو آپ اپنے

22 καὶ οὐς μὲν ἐλεᾶτε, διακρινόμενους;
 اور جن-پر تو رحم-کرو پر شک-کرنے-والوں-پر
[G2532](#) [G3739](#) [G3303](#) [G1653](#) [G1252](#)

ہیں۔ پڑے میں شک جو کریں رحم پر اُن

23 <οὐς δὲ> σῶζετε, ἐκ πυρὸς ἀρπάζοντες; οὐς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ,
 اور جن-کو اور بچاؤ سے آگ چھین-کر جن-پر اور رحم-کرو میں خوف
[G3739](#) [G1161](#) [G4982](#) [G1537](#) [G4442](#) [G0726](#) [G3739](#) [G1161](#) [G1653](#) [G1722](#) [G5401](#)

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπλωμένον χιτῶνα.
 نفرت-کرتے-ہوئے بھی اُس سے جو جسم-سے داغدار کیڑے-سے
[G3404](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0575](#) [G3588](#) [G4561](#) [G4695](#) [G5509](#)

سے حرکتوں اپنی جو کریں نفرت بھی سے لباس کے شخص اُس بلکہ ساتھ۔ کے خوف لیکن کریں، رحم پر بعض اور بچائیں کر چھین سے میں آگ کو بعض
 ہے۔ گبا ہو آلودہ سے گناہ

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταιστούς, καὶ στήσαι κατενώπιον
 اُس-کو جو قادر-ہے بچانے-کو تم-کو ٹھوکر-سے اور کھڑا-کرنے-کو سامنے
[G3588](#) [G1161](#) [G1410](#) [G5442](#) [G4771](#) [G0679](#) [G2532](#) [G2476](#) [G2714](#)

τῆς δόξης αὐτοῦ, ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,
 اپنے جلال-کے اپنے بے عیب میں خوشی
[G3588](#) [G1391](#) [G0846](#) [G0299](#) [G1722](#) [G0020](#)

سکتا کر کھڑا کے کر معمور سے خوشی بڑی اور بے داغ سامنے کے جلال اپنے کو آپ اور بے سکتا رکھ محفوظ سے کھانے ٹھوکر کو آپ جو ہو تمجید کی اُس
ہے۔

25	μόνω	Θεῶ	Σωτηρι	ἡμῶν,	διὰ	Ἰησοῦ	Χριστοῦ	τοῦ	Κυρίου	ἡμῶν,	δόξα,
	واحد	خدا	نجات-دہندہ	ہمارے	کے-ذریعے	یسوع	مسیح	کے	خداوند	ہمارے	جلال
	G3441	G2316	G4990	G1473	G1223	G2424	G5547	G3588	G2962	G1473	G1391
	μεγαλωσύνη,	κράτος,	καὶ	ἐξουσία,	πρὸ	παντὸς	τοῦ	αἰῶνος	καὶ	νῦν,	καὶ
	عظمت	قدرت	اور	اختیار	سے-پہلے	تمام	کے	زمانوں	اور	اب	اور
	G3172	G2904	G2532	G1849	G4253	G3956	G3588	G0165	G2532	G3568	G2532
	εἰς	πάντας	τοὺς	αἰῶνας.	ἀμήν.						
	میں	تمام	تمام	زمانوں	آمین						
	G1519	G3956	G3588	G0165	G0281						

بھی اب سے ازل اختیار اور قدرت عظمت، جلال، اُسے سے وسیلے کے مسیح عیسیٰ خداوند ہمارے ہاں، ہو۔ جلال کا دہندہ نجات ہمارے یعنی خدا واحد اُس
آمین۔ رہے۔ تک ابد اور ہو